

## گارڈن اسکوائر میں موسم بہار کی آمد

برامپٹن، آن - پورے موسم بہار کے دوران جاری رہنے والے پروگراموں اور خاندان دوستانہ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گارڈن اسکوائر میں تشریف لائیں! شہر کے فنون و ثقافت کے متنوع پروگراموں میں شرکت کریں، بشمول: براہ راست تقریح، بڑی LED اسکرین پر موی نائٹس، مقامی فنکاروں اور مزید کئی دلکش پروگراموں کا لطف اٹھائیں۔ ڈاؤن ٹاؤن میں کونین اور مین اسٹریٹس پر واقع گارڈن اسکوائر، موسم بہار کی آب و تاب سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہونے کی ایک عالیشان جگہ ہے۔

اس سال کی چھلکیوں میں شامل ہیں:

- گارڈن اسکوائر میں ورلڈ کپ کی دھوم دھام! مورخہ 15 جولائی کو گروپ اسٹیجوں سے فائنلز تک کھیلوں کو نشر کیا جائے گا۔
- بروز اتوار مورخہ 8 جولائی کو برامپٹن فرسٹ پرائیڈ کی تقریب میں خاندان دوستانہ تقریح، فن کے مظاہرے، موسیقی اور مزید بہت کچھ پیش کیا جائے گا۔
- مورخہ 22 جولائی کو سٹامپ این' سٹیمپیڈ - اپنا کاؤبوائے بیٹ اور بوٹ سمیٹیں اور آگے چلیں۔
- مورخہ 12 اگست کو پارکس این' ریک، جو اس سال پہلی مرتبہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، مفت ورکشاپس، اسٹریٹ ڈانس کے مقابلے اور سوشل ڈانسنگ کے مظاہرے پیش کریں گے۔
- مورخہ 26 اگست کو شہر کی ہر دلغزیز 'دی ایسٹ کوسٹ کچن پارٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہو گی۔ میریٹائمرز اور مین لینڈرز کو ایک جیسی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تقریح، مختلف سرگرمیوں اور مزیدار کھانوں سے ایسٹ کوسٹ کی ثقافت کا جشن منائیں۔

گارڈن اسکوائر وہ جگہ ہے جہاں برامپٹن میں زندگی سما جاتی ہے۔ تقریبات کی مکمل فہرست [www.brampton.ca/gardensquare](http://www.brampton.ca/gardensquare) پر ملاحظہ کریں

- ہر پیر: برامپٹن آن سکرین • شام 7 بجے
- ہر منگل: آن باکسڈ (صرف نوجوانوں کے لیے) • شام 7 بجے
- ہر بدھ: برامپٹن آن سٹیج • شام 7 بجے
- ہر جمعرات: بالی ووڈ فلم نائٹس • شام 7 بجے
- ہر جمعہ: فرائیڈے نائٹ لائیو • شام 8 بجے | اوپنر | شام 9 بجے ہیڈلائنر
- ہر ہفتہ: سیچرڈے نائٹ مویز • شام 7 بجے | شام 9 بجے
- ہر اتوار: خصوصی تقریبات

**روز** تھیٹر میں موسم بہار کی تھیٹر سیریز کے ساتھ 2018 - 2019 کے انتہائی زرخیز اور متنوع موسم بہار کا آغاز ہو گا اور یہ سلسلہ 24 جولائی تا 7 ستمبر تک جاری رہے گا۔ 4 اگست کو شمالی امریکہ کے بنگرہ کے سب سے بڑے مقابلے کا لطف اٹھائیں جو فلاور سٹی بنگرہ کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ ستمبر کے مہینے کے آغاز میں ورلڈ آف جاز ٹھوار کی خوشیاں منائیں جس کے افتتاحی کلمات مانیکل کیشامر پیش کریں گے اور یہ برامپٹن کی تنظیم بی-جازڈ (B-Jazzed) کے ساتھ شراکت داری میں پیش کیا جائے گا۔

### اقتباس

"ہمارے رہائشی ایک محرک شہر کو پسند کرتے ہیں جس میں پرجوش عوامی مقامات موجود ہوں جہاں پر وہ اپنے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں۔ گارڈن اسکوائر اور روز تھیٹر ان کے لیے ایسے ہی دو اہم مقامات ہیں۔ اس موسم بہار کے دوران ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں پیش کیے جانے والے پروگرام ثقافتی طور پر متنوع اور خیرمقدمی ہیں اور ان میں ہر کسی کی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ان زبردست مواقع کا حصہ بننے کے لیے آپ گارڈن اسکوائر اور ڈاؤن ٹاؤن میں تشریف لائیں اور اس کمیونٹی میں پائے جانے والے خیرمقدمی احساسات کا لطف اٹھائیں۔"

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔